```
ر سجانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز قر آن مجید میں مردوں یعنی خاوند کو حکم دیا ہے کہ وہ عور توں کوان کا مهرا داکریں چنانچے فرمان باری تعالی ہے:
                                                                                                                                                 اور عور توں کوان کے مهر راضی وخوشی دے دو، ہاں اگروہ خودا ہنی مرضی وخوشی سے کچھے مهر چھوڑ دیں تواسے شوق سے خوش ہوکر کھا وَالنساء ( 4 ) .
                                                                                                                                                                                                                                                                    برى رحمه الله كهية مين :
                                                                                                                                                          "الله سجانہ و تعالیٰ اس کوؤکر کرنے سے یہ مراد لیا ہے کہ تم عور توں کوان کے مہراداکروجو کہ واجب کردہ عطبہ ہے اور فرض ولازم ہے "
                                                                                                                                                                                                                                                                     ران کا پر بھی کہنا ہے:
                                                                                                                                                                                                                                                                   قاده رحمه الله كينة من:
                                                                                                                                                                                                                                                عور توں کوان کے مہر راضی وخوشی دیے دو .
                                                                                                                                                                                                                                                               را بن جریج سے مروی ہے:
                                                                                                                                                                                                                                                عور توں کوان کے مہر راضی وخوشی دیے دو .
                                                                                                                                                                                                                                                                       رر کردہ فرض ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                       را بن زید کہتے ہیں :
                                                                                                                                                                                                                                               عور توں کوان کے مہر راضی وخوشی دیے دو .
                                                                                                                                                                                                                                      ب کی کلام میں الخلۃ واجب کے معنی میں آتا ہے "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                        ر (241/4).
                                                                                                      ں نے تومر دیرواجب کیا ہے کہ وہ عورت کومبر دے ، نہ کے اس کے بر عکس ، قرآن اور سنت نبویہ کی نصوص تواسی پر دلالت کرتی ہیں ،ان میں بخاری شریف کی درج ذیل حدیث بھی شامل ہے :
، سعدانساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کینے گلی اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اینا نفس آپ کوہیہ کرنے آئی ہوں ، چنا نجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اوراس میں نظر دوڑائی اوراویر سے لیکر نیچے تک دیکھا اور پ
                                                                                                              الله تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کواس عورت میں کوئی حاجت نہیں تو آپ میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا:
                                                                                                                                              ، پاس کچھ ہے؟ تواس نے عرض کیا: اے اطد تعالی کے رسول صلی اطد علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فریایا:
                           رجا کر دیجھ کیا تمہیں کچہ ملتا ہے ؟ تووہ شخص گیااورواپس آ کرکنے لگا : اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملاہمروہ واپس میٹر گیارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جاؤ ہا کر دیجھ چاہتے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو، تووہ شخص گیااورواپس آ کرکنے لگا :
علیہ وسلم اللہ کی قسم لوہے کی انٹوشمی ہی نہیں ہے ،لیکن یہ میری چادرہ بیسا ہے آدمی چادرہ بیس اسے آدمی چادردیتا ہوں ، تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ؛ وہ تیری اس چادرکا کیا کرگی ،اگراسے توزیب تن کریگا تواس پر کچھ نہیں ہوگا ، خانچہ وہ شخصی پیٹے گیا ، اور جب جلس لہی ہوگی اوروہ بست طویل عرصہ تک پیشا ،
                                                      رة يادىب، تورسل كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : كيا تم يہ زباني پڑھ سكتے ہمو؛ تواس نے عرض كيا جي ہاں، چانچہ رسول كريم صلى الله عليہ نے فرمايا : جاؤتيرے پاس جوقر آن مجيد ہباس عورت كويادكرانے كے بدلے اس عورت كامالك بناديا "
                                                                                                                                                                                                                                        بر (4741) صحح مسلم حدیث نمبر (1425).
                                                                                                                                                                                                                                                                   ن حجر رحمه الله كهية بس:
                                                                                                                                                                                             ں حدیث میں ہے کہ: نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
                                                                                                                                                                                                                                      "كياتهارك پاس اسے مهروينے كے ليے كھے ہے"
                                                                                                                                                                                                    اور علماء کا اجماع ہے کہ بغیر مہر ذکر کیے کسی کے لیے کسی عورت سے وطئ کرنا جائز نہیں "
                                                                               میں یہ بھی ہے کہ : بہتریمی ہے کہ مہرذ کر کیا جائے ،اوراگروہ بغیر مہر کے زکاح کر تاہے تو عقد زکاح صحح ہوگا لیکن دخول ہونے یہاں عورت کے لیے مهرمثل واجب ہوگا (یعنی اس جیسی عورتوں بقنامهر دینا ہوگا)" انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                        ن(211/9).
```

ن مجیداورسنت نبوییہ اوراہل علم کا اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ خاونداہتی بیوی کومبراداکرے نہ کہ بیوی خاوند مبر دے ،اور فطرت سلیمیہ اوربشری طبیعت کے ساتھ بھی بی موافق ہے کہ مرداہتی بیوی کومبراداکرے .

ر پھر خاوند عورت پر نگران اور حاکم کیسے ہوستنا ہے حالانکہ عورت نے اس خاوند کومہر اداکیا ہے؟!

۔ پیراللہ بجانہ و تعالی نے توغاوند کا اپنے مال میں سے ہوی پرخرچ کرنااوراس کے اخراجات برداشت کرنے کوعورت پرمر دکی نگرانی اور حکمرانی کاسبب بیان کیا ہے.

رسجانہ و تعالی کا فرمان ہے :

اور مر دعورتوں پر حکمران و نگران میں ،اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ، اوراس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے (ان عورتوں پر)خرج کیا ہے النساء (34) .

ندکی جانب سے یہ اخراجات اور خرج پر داشت کرنے کے بعد ہوی یہ بہت زیادہ محموس کرتی ہے کہ خاوند نے بہت زیادہ خرج کو ہرداشت کیا ہے تواس طرح وہ اپناسارایا اس میں کچھ صدابتی مرضی وخوشی خود ہی چھوڑدیتی ہے ، اس لیے خاوند کے لیے یہ لینے میں کوئی حرج نہیں کوئی اللہ ہوائے وہ اللہ ہوائے وہ اللہ ہوائے ہو تھوڑدیں تواسے خوش ہو کرکھا والنہ ، (4).

کے ہاں وہ مال جوعورت شادی کرنے کے لیے بطور مہرا ہے نیا وند کو دیتی ہے یہ دین کے بھی خالف ہے اور فطرت سلیر کے بھی، اور عقل اور بشری طبیعت کے بھی منانی و غالف ہے، یہ تواس صورت میں ہے جب یہ قلیل می مقدار میں ہو، لیکن اگریہ زیادہ مقدار میں ہو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو پھر کیا۔ توآ پ کے علاقے میں علما، کرام اور میڈیا کوچاہیے کہ وہ اس رکاوٹ اور خرابی کی وضاحت کریں اور پھر اس کا علاج بھی سامنے رکھیں، اور اس کو کسی ایسی چیز سے تندیل کریں جو شریعت مطہرہ کے موافق ہے، اور فطرت سلیم کے بھی موافق ہے جس پر لوگ پیدا ہوئے ہیں.

والتداعلم.

اسلام سوال وجواب

45527